

## فروری کے بینفٹس کے حوالے سے SNAP وصول کنندگان کے لیے اہم معلومات

وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے باعث SNAP کے بیشتر وصول کنندگان کو فروری کے سپلیمنٹل نیوٹریشن اسسٹنس پروگرام (SNAP) بینفٹ وقت سے پہلے جاری کر دئیے جائیں گے۔

اگر آپ نے جنوری میں SNAP بینفٹ وصول کیا ہے اور فروری میں بھی SNAP کی تاریخ مقرر ہے تو امکان ہے کہ یہ بینفٹ فروری کی مقررہ تاریخ کی بجائے آپ کو 17 جنوری کو ہی آپ کے EBT کارڈ میں جاری کر دیا جائے۔

یہ آپ کے پورے ماہ فروری کا بینفٹ شمار کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جنوری کا اضافی SNAP بینفٹ ہے۔ اگر آپ کو اپنا SNAP بینفٹ 17 جنوری کو مل چکا ہے، تو آپ کو فروری میں کوئی بینفٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ لہذا، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا فروری کا بینفٹ یہ بات مدنظر رکھ کر خرچ کریں۔

اگر آپ نے جنوری میں SNAP کے لیے عمل مکمل کر لیا ہے اور آپ کو فروری کا بینفٹ 17 جنوری تک نہیں ملتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو فروری کا بینفٹ نہیں دیا جائے گا۔ ماہ فروری کے لیے آپ کا بینفٹ فروری کے معمول کے مقررہ شیڈول کے مطابق دستیاب ہونا چاہیے۔

فی الوقت، وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن کے باعث SNAP میں مزید کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ پروگرام کی تمام شرائط جوں کی توں موجود ہیں۔ اگر آپ کو دوبارہ تصدیق کا نوٹس یا درخواست فارم یا رپورٹ فارم وصول ہوا ہے تو براہ مہربانی انہیں پُر کریں نیویارک سٹی ڈیپارٹمنٹ آف سوشل سروسز (DSS) کو فی الفور واپس کریں تاکہ آپ تک SNAP کی فراہمی بلا تعطل جاری رکھی جا سکے۔ تبدیلیوں کی اطلاع DSS کو دینے کا طریقہ کار بھی تبدیل نہیں ہوا۔

ہم اس بارے میں آپ کو باقاعدگی سے آگاہ کرتے رہیں گے کہ وفاقی حکومت کے شٹ ڈاؤن SNAP بینفٹ پر کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ معلومات آپ کو آفس آف ٹیمپریری اینڈ ڈس ایلٹی اسسٹنس کی ویب سائٹ [www.otda.ny.gov](http://www.otda.ny.gov) یا [nyc.gov/hra](http://nyc.gov/hra) پر دستیاب ہیں۔ OTDA کی ویب سائٹ میں بھی شٹ ڈاؤن کے متعلق عمومی سوالات اور ان کے جوابات دئیے گئے ہیں۔